

⑥ Sicurezza - Per garantire la sicurezza durante l'uso del prodotto, è necessario attenersi rigorosamente alle seguenti regole

- Il telefono deve trovarsi ad almeno 15 cm di distanza da qualsiasi impianto medico o regolatore del ritmo cardiaco e non porre mai il dispositivo nella tasca della giacca.
- Non esporre il dispositivo e altre batterie a temperature elevate come luce solare o insieme ad apparecchiature che generano calore, come termosifoni, forni a microonde, stufe o scaldabagni. Il surriscaldamento della batteria può causare un'esplosione.
- Quando la carica è completa o non si carica, scollegare il caricabatterie dal dispositivo e scollegare il caricabatterie dalla presa.
- Se il dispositivo è dotato di una batteria non rimovibile, non sostituire la batteria da soli per evitare di danneggiare la batteria o il dispositivo.
- L'utilizzo di una fonte di alimentazione, caricabatterie o batteria non approvati o incompatibili può causare incendi, esplosioni o altri pericoli.
- Non smontare o resettare la batteria, inserire altri oggetti o immergerla in acqua o altri liquidi per evitare perdite, surriscaldamento, incendio o esplosione della batteria.
- Non far cadere, schiacciare, graffiare o forare la batteria per evitare di sottoporre la batteria a un'eccessiva pressione esterna, che potrebbe causare cortocircuiti interni e surriscaldamento della batteria.
- La società non si assume alcuna responsabilità per incidenti causati da apparecchiature di ricarica correlate non standard.

Se vuoi leggere la Conformità CE completa, controlla questo link: <http://www.oukitel.com>



7 Manutenzione

- Comprendere a fondo la manutenzione di questo telefono per utilizzare il telefono in modo più sicuro ed efficace e prolungare la durata del telefono il più possibile.
- Seguire le istruzioni nel manuale per aprire il telefono, smontare gli accessori e non provare a fare altro che non sia esplicitamente scritto nel manuale.
- Evitare di far cadere, urtare o scuotere il telefono. Una manipolazione brusca del telefono può causare la rottura dello schermo, danneggiando il circuito interno e la delicata struttura.
- Non utilizzare solventi o detergenti chimici per pulire il telefono. Pulire la custodia del telefono con un panno di cotone morbido inumidito con acqua e sapone neutro.
- Pulire l'obiettivo con un panno pulito, asciutto e morbido.
(Esempio: obiettivo della fotocamera) e display.
- Quando il caricabatterie non è in uso, scollegarlo dalla presa di corrente. Non collegare la batteria che è stata completamente caricata al caricabatterie per lungo tempo, poiché il sovraccarico ridurrà la durata della batteria.

Italiano

1. Usare attenzione con gli auricolari, forse una pressione sonora eccessiva proveniente da auricolari e cuffie può causare la perdita dell'udito.
2. ATTENZIONE: RISCHIO DI ESPLOSIONE SE LA BATTERIA VIENE SOSTITUITA CON UN TIPO NON CORRETTO, SMALTIRE LE BATTERIE USATE SECONDO LE ISTRUZIONI.
3. Il prodotto deve essere collegato solo a un'interfaccia USB della versione USB 2.0.
4. L'adattatore deve essere installato vicino all'apparecchiatura e deve essere facilmente accessibile.
5. Temperatura di funzionamento: -20°C to 55°C.
6. La spina è considerata come dispositivo di disconnessione dell'adattatore.
7. SAR: il dispositivo è conforme alle specifiche RF quando utilizzato a 5 mm dal corpo (limite SAR 2,0 W/Kg). Il dispositivo è conforme ai requisiti.




Restrizioni nella banda 5 GHz:
Ai sensi dell'Articolo 10 (10) della Direttiva 2014/53/UE, l'imballaggio mostra che questa apparecchiatura radio sarà soggetta ad alcune restrizioni una volta immessa sul mercato in Belgio (BE), Bulgaria (BG), Repubblica Ceca (CZ), Danimarca (DK), Germania (DE), Estonia (EE), Irlanda (IE), Grecia (EL), Spagna (ES), Francia (FR), Croazia (HR), Italia (IT), Cipro (CY), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (LU), Ungheria (HU), Malta (MT), Paesi Bassi (NL), Austria (AT), Polonia (PL), Portogallo (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovacchia (SK), Finlandia (FI), Svezia (SE), Turchia (TR), Norvegia (NO), Svizzera (CH), Islanda (IS) e Liechtenstein (LI). La funzione WLAN per questo dispositivo è limitata all'uso in interni solo quando si opera nella gamma di frequenza da 5150 a 5250 MHz.

	ES	LU	RO	CZ	FR	HU	SI
	DK	HR	BE	BG	DE	EE	IE
	EL	IT	CY	LV	LT	SK	MT
	NL	AT	PL	PT	FI	SE	LI
	TR	NO	CH	IS			



Accesorios



Cable tipo C Manual Tarjeta de garantía

Batería


WP300 incluye una batería interna. Puede verificar el estado de la batería con el icono que aparece en la parte superior derecha de la pantalla.



45W Carga rápida de


Advertencia

Utilice solo baterías aprobadas por OUKITEL diseñadas específicamente para su teléfono. Las baterías incompatibles pueden causar lesiones graves o daños a su teléfono. No coloque baterías o teléfonos en dispositivos de calentamiento como hornos microondas, estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar cuando se sobrecalientan.




① Cómo insertar la tarjeta

- Para asegurarse de que su teléfono inteligente pueda hacer llamadas, inserte la tarjeta SIM como se indica a continuación.
- Inserte y presione la aguja o pin expulsor en el orificio del costado para sacar el portatarjetas.



- Con el teléfono inteligente mirando hacia arriba, inserte el portatarjetas en dirección de la flecha.





② Cómo encender

La batería no es extraíble.
Debe presionar el botón de encendido de 3 a 5 segundos para encenderlo.

③ Cómo enviar mensajes SMS, MMS

SMS

- Abra la aplicación de SMS
- Seleccione "Nueva información"
- Introduzca un número de teléfono o explore sus contactos
- Seleccione "Editar información e ingrese su texto"
- Enviar ➤

Vídeos MMS

- Al escribir un mensaje de texto
- Seleccione imágenes, vídeos u otros archivos que desee agregar, incluso puede tomar una nueva foto o vídeo de inmediato
- Seleccionar o enviar ➤

④ Configuración de cambio de idioma

- Menú principal - sistema de configuración - idioma y método de entrada
- Idioma y método de entrada - agregar idioma
- Seleccione el idioma que necesite; el sistema volverá automáticamente a la interfaz de idioma
- Seleccione el icono después de la barra de idioma y arrástrelo al primer lugar

⑤ SAR

- La tasa máxima de absorción de radiación electromagnética (SAR) de este producto es $\leq 2,0$ W/kg.
- Cumple con los requisitos de la norma nacional.

EN62209-1:2016; EN 62209-2:2010; EN 62479:2010;
EN 50360:2017; EN 50566:2017;

ⓐ Seguridad - Para garantizar la seguridad durante el uso del producto, debe cumplir estrictamente las siguientes reglas

- El teléfono inteligente debe estar al menos a 15 cm de distancia de cualquier implante médico o regulador de ritmo y nunca coloque el dispositivo en el bolsillo de su abrigo.
- No exponga el dispositivo y otras baterías junto con altas temperaturas o equipos generadores de calor, como luz solar, calentadores, hornos microondas, hornos u calentadores de agua. El sobrecalentamiento de la batería puede causar una explosión.
- Cuando la carga esté completa o no se esté cargando, desconecte el cargador del dispositivo y desenchufe el cargador del enchufe.
- Si el dispositivo está equipado con una batería no extraíble, no la reemplace usted mismo para evitar dañar la batería o el dispositivo.
- El uso de una fuente de energía, cargador o batería no aprobados o incompatibles puede causar incendios, explosiones u otros peligros.
- No desarme ni reinicie la batería, ni inserte otros objetos, ni la sumerja en agua u otros líquidos para evitar fugas de batería, sobrecalentamiento, incendios o explosiones.
- No deje caer, aplaste, raye ni perfora la batería para evitar someterla a una presión externa excesiva, lo que podría causar un cortocircuito interno y sobrecalentamiento de la batería.
- La empresa no se hace responsable de los accidentes causados por equipos de carga no estándar relacionados.

Si desea leer la conformidad completa con CE, por favor, consulte este enlace: <http://www.oukitel.com>



7 Mantenimiento

- Comprenda completamente el mantenimiento de este teléfono inteligente para usarlo de manera más segura y efectiva, y prolongar al máximo la vida útil del teléfono inteligente.
- Siga las instrucciones del manual para abrir el dispositivo, desmontar los accesorios, sin intentar otros métodos o procedimientos no autorizados.
- Evite dejar caer, golpear o sacudir su teléfono inteligente. El manejo brusco del teléfono inteligente puede causar la ruptura de la pantalla, dañar la placa de circuito interno y la estructura delicada.
- No use solventes químicos o detergentes para limpiar su teléfono inteligente. Limpie la carcasa del teléfono inteligente con un paño de algodón suave humedecido con agua y jabón suave.
- Limpie la lente con un paño limpio, seco y suave. (Por ejemplo: lente de la cámara) y la pantalla.
- Cuando el cargador no esté en uso, desconéctelo del enchufe de corriente. No conecte la batería que ha sido completamente cargada al cargador durante mucho tiempo, ya que la sobrecarga acortará la vida útil de la batería.

Español

1. Tenga cuidado con los auriculares, ya que es posible que una presión sonora excesiva de los auriculares y los audífonos pueda causar pérdida de audición.

2. PRECAUCIÓN: RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA SE REEMPLAZA POR UN TIPO INCORRECTO. DESECHE LAS BATERÍAS USADAS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES.

3. El producto solo deberá conectarse a una interfaz USB de versión USB2.0.

4. El adaptador se instalará cerca del equipo y será de fácil acceso.


5. Temperatura de funcionamiento: -20°C to 55°C.

6. El enchufe se considera como dispositivo de desconexión del adaptador.

7. SAR: El dispositivo cumple con las especificaciones de RF cuando se utiliza a 5 mm de su cuerpo (límite de SAR 2,0 W/Kg). El dispositivo cumple con los requisitos.
- 

Restricciones en la banda de 5 GHz:
Según el artículo 10 (10) de la Directiva 2014/53/UE, el embalaje indica que este equipo de radio estará sujeto a algunas restricciones cuando se comercialice en Bélgica (BE), Bulgaria (BG), la República Checa (CZ), Dinamarca (DK), Alemania (DE), Estonia (EE), Irlanda (IE), Grecia (EL), España (ES), Francia (FR), Croacia (HR), Italia (IT), Chipre (CY), Letonia (LV), Lituania (LT), Luxemburgo (LU), Hungría (HU), Malta (MT), Países Bajos (NL), Austria (AT), Polonia (PL), Portugal (PT), Rumania (RO), Eslovenia (SI), Eslovaquia (SK), Finlandia (FI), Suecia (SE), Turquía (TR), Noruega (NO), Suiza (CH), Islandia (IS) y Liechtenstein (LI).
La función WLAN de este dispositivo está restringida al uso en interiores únicamente cuando funciona en el rango de frecuencia de 5150 a 5250 MHz.

	ES	LU	RO	CZ	FR	HU	SI
	DK	HR	BE	BG	DE	EE	IE
	EL	IT	CY	LV	LT	SK	MT
	NL	AT	PL	PT	FI	SE	LI
	TR	NO	CH	IS			





ة اطلال اخدا ة في ك



نام ضلالت و قاطب



ق ا ط ب ل ا ل ا خ د ا ة ف ي ك


الاح عيبتت لئن لئدي. ةيلخاد ةيراطب ولع WP56 يوتحي
شراشلا نم ينمديلا ةيوازلا ولع يف كضور عمل ءنوقيال مادختساب لئب كصاخلا ةيراطبلا



45W جنوداليش


ری ذحت

- گفتا دل آصی صخ بهبصل او OUKITEL نم دتت عیلا تایرا طبل طوف بدختس
گفتا دل رارض او آفرطخ تاباصل بحبست نا گدیی قوفوتبل ریغ تایرا طبل
ناوفا لثم دیندتل آژوچ ایف او یلع فتاوتل او تایرا طبل عضت ال
اعتراوح آژود غلغترا ندع تایرا طبل رجفت فق شاعشلا او دقاولا و فیوورللیلا




❶ عَقِ اطْبِلَا لْاِخْدَاةِ فَيَكْ

- يُلْتَمَسُ بِيَدِ مُرْسِلِ ابِّ **SIM** قَطْطِ لَخْدَا، تَامِلْ اَلْكُفْلَا، اِرْجَا يَلْعَ رَدَاقْ لَخَزَا جِ نَا نِمْ دَكَا تَلْ
- قَطْطَا بِلَا جَرْدِ اِرْجَا خَلْ بِنَا اِلَا يَفْ دَوُجُ جَلَا عَجَفَلَا يَفْ فُذَا قُلَا سَوْبِدْ يَلْعَ طَرْعَا وَا لَخْدَا



* مەمۇرىي ھاجىتى يېڭى قاتلامنى ئاچقاندا، ئىلگىر زامانلاردا ھېچ نەرسە بولمىغان.



② لي غشتلا ةي فيك

قل از ایل قلباق ریغ یراطب
لیغ شعللیناوت 3-5 قدام ققاطر

③ قد دعتم لاطي اسول لى اسر ، قري صق ل لى اسر ل ل اسر ا قى في ك

قري صقلا لئاسرلا

- قري صرقل لئاسرلا قري بملت حيتفا
- قديج تاملوعم رتخا
- ثقب قصاخال لاصتال تاج حفصت
- ثقب صاخلا صرقل لخدأو تاملوعملا
- لئاسرلا ➤

ويدي فة ددعت ملى طئ اسول لئ اسر

- فيصن قلندر عباسك دن
- ديدت يتلا ىرخ آلا تافلل
- روفلا ىلوع ديدج ويديف
- لاسر! وأرايتخا ➤

④ غللا لي دبت تاداع!

- تادادع - قيسيزلا ءمىاقلا
- غلغل قفاضا - غلغل - لاخلادال ققيرطو غلغل - لاملظال
- غلغل ءهجو لىلى اىقلاقت لاملظال دوعىسو ، ادديرت يتلا غلغل ددح
- لوئال زمرلا لىلى هبجساو غلغل طهرش دعب زمرلا ددح

٥ يسى طان غموره كل اعاش الى صا صتما قيسن

- يسري نظام غمر ذلك على أعمال الصايرتة المبسطة في العراق والدول
مجاورة لها و ≤ 2.0 وهو جسيمات اقل (SAR)
من طولها رأي عملها تابلط من عمق تفاوت


EN62209-1:2016; EN 62209-2:2010; EN 62479:2010;
EN 50360:2017; EN 50566:2017;

⑥ **ءانثأ قم السلا نامض لجأ نم - قم السلا**
مراسلا امتازت لىل بجي ، جتنملا مادختسا
ةيلاتلا دواوقلاب

- وړل دس 15 قساصم زاولا دديني را بدي
بخدمتوچ دسوج په ادبا زاولا صيت الو عاقي دملن او دسبط عجز ي ن ع لقال
- دخال سايراطبيلو زاولا صيرت ات
متان ايريدو ، مېرلي اوغش لشم قراخ دديوت تادعيم او غيالو قراخ سايريد اعم
- و ا نرغفالو ، دفيوورديگلي نواو
ايراجيدن علا دواړ لغترب غيوطير ايرنيغصت ي دوي ذق ، فاولا تانغاس
دع و ا نچرلي لانگشا دنع
سرمبولغ ن ع نچرلي لاصرف ديو زاولا ن ع نچرلي لاصرف دق نچرلي
- طباق ريغ غيوطير اوزم زاولا ناك ادا
زاولا او غيوطير اقالا تين پست لاصرفبن غيوطير ا لاديتساب دقت ات ، ملازايل
- نچاش او ، دفاط رصم دواختساب ي دوي ذق
دوخ اراطخ او اراجين او قيرخ بوغن علا قيرخاوسم ريغ او ، دقبت خم ريغ غيوطير ا
- و ا مالا يف ارمغ او ، دبرخا ايش لاجو او ، غيوطير ا طبطن دتاغ او ، دكي گشتب دقت ات
دراجين او قيرخ بوغن او ، دامتار ، غيغترا او ، غيوطير ا سربست يين پست ريغ لايوس
- غيوطير ا نچررت يين پستل غيوطير ا بيقشت او ، شريخت او ، مېرت او ، طبطن ات
غيوطير ا قراخ عاقتو او ديو لاج رصق قيراد علا دوي ذق اهم ، دطرم ي پراخ دطيلغ
- نظريلا دمت صيت
لاله صلا تاذ غيويغوالا ريغ نچرلي تادعيم ن ع قيراجين تاشو ل غيودوسم
لمتلا لاشتمال دواړ ذق نه بغيرت تريك ادا
http://www.oukultel.com/ دپيولار ا دذه نيم قچتل ا چري CE ي سيورولا داتعل

⑦ لي غشت تلاتة فيك

- [illegible]





Tarvikkeet



TYYPPI-C



Manuaalinen



Takuukortti

Akku


WP56 sisältää sisäisen akun. Voit seurata akun tilaa näytön oikeassa yläkulmassa näkyvästä kuvakkeesta.



45W Nopea Lataus

Advertencia


Käytä vain OUKITELin hyväksymiä akkuja, jotka on erityisesti suunniteltu puhelimeesi. Yhteensopimattomat akut voivat aiheuttaa vakavia vaurioita tai vaurioita puhelimeesi. Älä koskaan aseta paristoja tai puhelimia lämmityslaitteiden, kuten mikroaaltouunien, liesien tai lämpöpatterien, päälle tai sisään. Akut voivat räjähtää ylikuumenessaan.






❶ Kuinka käynnistää

- Varmistaaksesi, että älypuhelimesi voi soittaa puheluita, Aseta SIM-kortti alla olevan mukaisesti.
- Työnä ja paina neula tai ejektorin tappi sivulla olevaan reikään irrottaaksesi kortin pidikkeen.



- Aseta kortinpidike tyynyn tyynyn ollessa ylöspäin nuolen suuntaan.



2 Ei irrotettava akku

Paina virtapainiketta 3-5 sekunnin ajan käynnistääksesi

3 Kuinka lähettää SMS, MMS

SMS

- Avaa SMS-sovellus
- Valitse Uudet tiedot
- Anna puhelinnumero tai selaa yhteystietojasi
- Valitse Muokkaa tietoja ja kirjoita teksti
- Lähetä ➤

MM-video

- Kun kirjoitat tekstiviestiä
- Valitse kuvat, videot tai muut tiedostot, jotka haluat lisätä, vaikka voit ottaa uuden kuvan tai videon heti
- Valitsemalla tai lähettämällä ➤

4 Inguagen vaihtoasetukset

- Päävalikko-asetukset - kieli ja syöttötapa Kieli ja syöttötapa — kieli — kielen lisäys
- Valitse tarvitsemasi kieli, järjestelmä siirtyy automaattisesti
- hyppää takaisin kiellitymään
- Valitse kuvake kiellipalkin jälkeen ja vedä se ensimmäiseen

5 SAR

- Tämän tuotteen suurin sähkömagneettisen säteilyn absorptiosuhde (SAR) on ≤2,0 W/kg.
- Kansallisen standardin vaatimusten mukainen

EN62209-1:2016; EN 62209-2:2010;
EN 62479:2010; EN 50360:2017; EN 50566:2017;



Ⓢ Seguridad - Para garantizar la seguridad durante el uso del producto, debe cumplir estrictamente las siguientes reglas

- noudata seuraavaa
- Pehmusteen tulee olla vähintään 15 cm:n päässä lääketieteellisestä implantista tai rytmisäätimestä, äläkä koskaan laita laitetta takkitaskuun.
- Älä altista laitetta ja muita paristoja korkeita lämpötiloja tai lämpöä tuottavia laitteita, kuten
- auringonvalo, lämmittimet, mikroaaltouunit, uunit tai vedenlämmittimet. Akun ylikuumeneminen voi aiheuttaa räjähdysriskin.
- Kun lataus on valmis tai ei lataudu, irrota laite laitteesta ja irrota laite pistorasia.
- Jos laite on varustettu ei-irrotettavalla akulla, älä vaihda akkua itse, jotta akku tai laite ei vaurioitu.
- Hyväksymättömän tai yhteensopimattoman virtalähteen, laiturin tai akun käyttö voi aiheuttaa tulipalon, räjähdysriskin tai muita vaaroja.
- Älä pura tai nollaa akkua, laita siihen muita esineitä, älä upota veteen tai muihin nesteisiin, jotta akku ei vuoda, ylikuumeneminen, tulipalo tai räjähdys.
- Älä pudota, murskaa, naarmuta tai puhkaise akkua, jotta akku ei altistu liialliselle ulkoiselle paineelle, mikä voi johtaa sisäiseen oikosulkuun ja akun ylikuumenemiseen akku.
- Yritys ei ota vastuuta onnettomuuksista, jotka aiheutuvat ei-standardinmukaisista latauslaitteista. Jos haluat lukea.

Jos haluat lukea koko CE-yhteensopivuuden, tarkista tämä muste: <http://www.oukiet.com>



7 Huolto

- Ymmärrä perusteellisesti tämän tyynyn huolto, jotta voit käyttää tyynyä turvallisemmin ja tehokkaammin ja pidentää tyynyn käyttöikää mahdollisimman paljon.
- Noudata käsikirjan ohjeita tyynyn avaamiseksi, lisävarusteiden purkamiseksi **älä**kä yritä muita
- Vältä tyynyn pudottamista, kolkuttamista tai ravistamista. Pehmusteen karkea käsittely voi aiheuttaa näytön repeytymisen ja vahingoittaa sisäistä piirilevyä ja herkkää rakennetta.
- **Älä** käytä kemiallisia liuottimia tai pesuaineita tyynyn puhdistamiseen. Pyyhi tyynyn kotelo **pehmeällä** puuvillakankaalla, joka on kostutettu vedellä ja miedolla saippualla.
- Puhdista linssi puhtaalla, kuivalla, **pehmeällä** liinalla. (Esimerkki kameran linssistä) ja näyttö.
- Kun laturia ei käytetä, irrota se pistorasiasta. **Älä** liitä täyteen ladattua akkua laturiin pitkään aikaan, sillä yllätalous lyhentää akun käyttöikää.
- Tämä koneen vakiopaketti (Pakkauslaatikko-tyyny-käsikirja-suojakalvo-suojakotelo-kuulokkeet-usb datakaapeli-otg kaapeli-laturi)



Finnish

1. Käytä kuulokkeita varoen. Kuulokkeiden liiallinen äänenpaine saattaa aiheuttaa kuulovaurion.

2. VAROITUS: RÄJÄHDYSVAARA, JOS AKKU VAIHDETAAN VAARALLA TYYPILLÄ. HÄVITTÄ KÄYTETTY AKUT OHJEIDEN MUKAISESTI.

3. Tuote saa liittää vain version USB2.0 USB-liitäntään.

4. Sovitin on asennettava laitteen lähelle ja siihen on oltava helposti saatavilla.


5. Käyttölämpötila: -20°C to 55°C.

6. Pistoketta pidetään sovitimen irrotuslaitteena.

7. SAR: Laitte on RF-määritysten mukainen, kun laitetta käytetään 5 mm:n etäisyydellä kehosta (SAR-raja 2.0 W/kg). Laitte on vaatimusten mukainen.
- 

Rajoitukset 5 GHz:n kaistalla:
Direktiivin 2014/53/EU 10 artiklan 10 kohdan mukaan pakkauksesta ilmenee, että tähän radiolaitteeseen sovelletaan tietyt rajoitukset, kun se saatetaan markkinoille Belgiassa (BE), Bulgariassa (BG), Tšekin tasavallassa (CZ), Tanska (DK), Saksa (DE), Viro (EE), Irlanti (IE), Kreikka (EL), Espanja (ES), Ranska (FR), Kroatia (HR), Italia (IT), Kypros (CY), Latvia (LV), Liettua (LT), Luxemburg (LU), Unkari (HU), Malta (MT), Alankomaat (NL), Itävalta (AT), Puola (PL), Portugali (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Suomi (FI), Ruotsi (SE), Turkki (TR), Norja (NO), Sveitsi (CH), Islanti (IS) ja Liechtenstein (LI).
Tämän laitteen WLAN-toiminto on rajoitettu sisäkäyttöön vain, kun se toimii taajuusalueella 5150–5250 MHz.

	ES	LU	RO	CZ	FR	HU	SI
	DK	HR	BE	BG	DE	EE	IE
	EL	IT	CY	LV	LT	SK	MT
	NL	AT	PL	PT	FI	SE	LI
	TR	NO	CH	IS			





Tillbehör



Typ-C



Manuell



Garantikort

Batteri


WP56 innehåller ett internt batteri. Du kan spåra din batteristatus med ikoner som visas längst upp till höger på skärmen.



45W Snabbaddning

Advertencia


Använd endast OUKITEL-godkända batterier speciellt utformade för din telefon. Inkompatibla batterier kan orsaka allvarliga skador eller skador på din telefon. Placera aldrig batterier eller telefoner på eller i värmeenheter som mikrovågsugnar, spisar eller radiatorer. Batterier kan explodera när de överhettas.






① Hur man startar

- För att säkerställa att din smartphone kan ringa samtal, Sätt i SIM-kortet enligt nedan.
- Sätt in och tryck in nålen eller utkastarstiftet i hålet på sidan för att ta bort korthållaren.



- Sätt i korthållaren med smarttelefonen uppåt i pilens riktning.



ⓘ Ej avtagbart batteri

Tryck på strömbrytaren i 3-5 sekunder för att starta

ⓘ Hur man skickar SMS, MMS

SMS

- Öppna SMS-appen
- Välj Ny information
- Ange ett telefonnummer eller bläddra bland dina kontakter
- Välj Redigera information och ange din text
- Skicka ➤

MMS-video

- När du skriver ett sms
- Välj bilder, videor eller andra filer som du vill lägga till även om du kan ta en ny bild eller video direkt
- Välja eller skicka ➤

ⓘ Inställningar för språkväxling

- Huvudmeny-inställningar system—språk och inmatningsmetod
Språk och inmatningsmetod—språk—språktillägg
- Välj det språk du behöver, systemet kommer automatiskt hoppa tillbaka till språkgränssnittet
- Välj ikonen efter språkfältet och dra den till den första

ⓘ SAR

- Det maximala elektromagnetiska strålningsabsorptionsförhållandet (SAR) för denna produkt är $\leq 2,0$ W/kg
- I linje med kraven i den nationella standarden

EN62209-1:2016; EN 62209-2:2010; EN 62479:2010;
EN 50360:2017; EN 50566:2017;



Ⓢ Säkerhet - För att garantera säkerheten under användning av produkten måste du strikt håll dig till följande

- Dynan bör vara minst 15 cm borta från medicinska implantat eller rytmjusteringar och stoppa aldrig enheten i rockfickan.
- Utsätt inte enheten och andra batterier för varandra höga temperaturer eller värmealstrande utrustning som t.ex solljus, värmare, mikrovågsugnar, ugnar eller .
- varmvattenberedare. Överhettning av batteriet kan orsaka en explosion.
- När laddningen är klar eller inte laddas, koppla bort laddaren från enheten och koppla ur laddaren från utlopp.
- Om enheten är utrustad med ett ej löstagbart batteri, byt inte ut batteriet själv för att undvika att skada batteriet eller enheten.
- Användning av en icke godkänd eller inkompatibel strömkälla, laddare eller batteri kan orsaka brand, explosion eller andra faror.
- Ta inte isär eller återställ batteriet, sätt inte i andra föremål, doppa inte i vatten eller andra vätskor för att undvika batteriläckage, överhettning, brand eller explosion.
- Tappa, krossa, repa eller punktera inte batteriet för att undvika att utsätta batteriet för överdrivet externt tryck, vilket kan resultera i intern kortslutning och överhettning av batteriet batteri.
- Företaget tar inte ansvar för olyckor orsakade av icke-standard relaterad laddningsutrustning.

Om du vill läsa hela CE-överensstämmelsen, kontrollera detta bläck: <http://www.oukitel.com>

7 Underhåll

- Förstå underhållet av denna dynan noggrant för att använda dynan säkrare och effektivare och förlänga dynans livslängd så mycket som möjligt.
- Följ instruktionerna i bruksanvisningen för att öppna dynan, ta isär tillbehören och försök inte med andra
- Undvik att tappa, slå eller skaka din dyn.
Hård hantering av dynan kan göra att skärmen går sönder, vilket skadar det interna kretskortet och den ömtåliga strukturen.
- Använd inte kemiska lösningsmedel eller rengöringsmedel för att rengöra dynan. Torka av dynfodralet med en mjuk bomullstrasa fuktad med vatten och mild tvål.
- Rengör linsen med en ren, torr, mjuk trasa.
(Exempel på kameralins) och display.
- När laddaren inte används, koppla ur den från eluttaget.
Anslut inte batteriet som har varit fulladdat till laddaren under en längre tid, eftersom överladdning förkortar batteriets livslängd.
- Denna maskins standardpaket (Paketbox-pad- manuell-skyddande film-skyddande fodral-headset-usb datakabel-otg kabel-laddare)



Swedish

1. Använd försiktigt med hörlurarna, kanske kan överdrivet ljudtryck från hörlurarna och hörlurarna orsaka hörselnedsättning.

2. VARNING: RISK FÖR EXPLOSION OM BATTERIET ERSÄTTS MOT EN FEL TYP. KASSA ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT INSTRUKTIONERNA.

3. Produkten ska endast anslutas till ett USB-gränssnitt av version USB2.0.

4. Adaptorn ska installeras nära utrustningen och ska vara lättillgänglig.

5. Drifttemperatur: -20°C to 55°C.

6. Kontakten anses vara fränkopplingsenhet för adaptorn.

7. SAR: Enheten överensstämmer med RF-specifikationerna när enheten används på 5 mm från din kropp (SAR-gräns 2.0 W/Kg). Enheten överensstämmer med kraven.

Begränsningar i 5 GHz-bandet:
Enligt artikel 10.10 i direktiv 2014/53/EU visar förpackningen att denna radioutrustning kommer att omfattas av vissa restriktioner när den släpps ut på marknaden i Belgien (BE), Bulgarien (BG), Tjeckien (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Grekland (EL), Spanien (ES), Frankrike (FR), Kroatien (HR), Italien (IT), Cypern (CY), Letland (LV), Litauen (LT), Luxemburg (LU), Ungern (HU), Malta (MT), Nederländerna (NL), Österrike (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumänien (RO), Slovenien (SI), Slovakien (SK), Finland (FI), Sverige (SE), Turkiet (TR), Norge (NO), Schweiz (CH), Island (IS) och Liechtenstein (LI).

WLAN-funktionen för



	ES	LU	RO	CZ	FR	HU	SI
	DK	HR	BE	BG	DE	EE	IE
	EL	IT	CY	LV	LT	SK	MT
	NL	AT	PL	PT	FI	SE	LI
	TR	NO	CH	IS			



www.oukitel.com

FC CE RoHS

The power delivered by the charger must be between min 15 Watts required by the radio equipment, and max 45 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

Android is a trademark of Google LLC.
Manufacturer Name: Shenzhen Yunji Intelligent Technology CO., LTD
Manufacturer Address: 202, Building A2, Silicon Valley Power Intelligent Terminal Industrial Park, No. 20, Dafu Industrial Zone, Kukeng Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen China